

**فیئر فیکس کاؤنٹی میں دی جانے والی خاندانی زندگی کی تعلیم**  
**علیحدگی کی درخواست کا فارم**  
**تیسرا گریڈ: جذباتی اور معاشرتی صحت**

اگر آپ اپنے بچے کو کنڈرگارٹن کے خاندانی زندگی کی تعلیم کے کچھ اسباق سے یا تمام اسباق سے علیحدہ کرنا چاہتے ہیں، تو براہ مہربانی اس فارم کو بھرئیے اور اسے اپنے بچے کے کلاس روم ٹیچر کو FLE کی ہدایات شروع ہونے سے پہلے واپس بھیج دیجیے۔ سبق کے مقاصد اور ذرائع ابلاغ کی وضاحت کے بارے میں مزید معلومات اس ویب سائٹ پر دستیاب <https://www.fcps.edu/academics/elementary-family-life-education-fle> اسباق Schoology میں دستیاب ہیں۔

براہ مہربانی یاد رکھیے: سوائے ایسی صورت میں کہ آپ نے اپنے بچے کو خاندانی تعلیم کے کچھ اسباق سے یا تمام اسباق سے علیحدہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، آپ کو یہ فارم واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

بچے کا نام \_\_\_\_\_ کلاس روم ٹیچر \_\_\_\_\_

ہدایات: براہ مہربانی اُن اسباق پر نشان لگائیں جن میں آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا بچہ شرکت کرے۔

سبق 1: مثبت خود خیالی

- طلباء مثبت ذاتی خصوصیات اور صفات کی شناخت کریں گے۔
- مثبت ذاتی خصوصیات کی نشاندہی اور ایک مثبت خود خیالی کو تیار کرنے کے اوصاف بشمول:
  - علمی زندگی، کھیل، فنون لطیفہ میں اچھا ہونا؛ اور مزاحیہ یا ایماندار ہونا۔

سبق 3/2: اچھا اور برا چھونا

- طلباء بیان کریں گے کہ اچھے چھونے کو کس طرح مناسب طریقے سے جواب دیں اور رشتے داروں، پڑوسیوں، اجنبیوں یا دوسروں کے نامناسب رویے سے کیسے نمٹا جائے۔
- اچھا چھونے جیسے مسکرانے یا گلے ملنے کے جواب میں کیسے بات کرنا
  - مبہم حالات یا نامناسب چھونے کے جواب میں کیسے بات کرنا، جیسے "نا" کہنا، صورتحال سے گریز اور صورت حال سے نکل جانا۔
  - غیر مناسب نقطہ نظر میں جنسی زیادتی کی وضاحت اور شناخت شامل ہے
  - اپنے حفاظتی نیٹ ورک میں قابل اعتماد بالغ افراد کی فہرست شامل کرنا
  - کسی بھی طرح کے مبہم حالات یا نامناسب چھونے کے بارے میں بالغ فرد سے بات چیت کرنا۔

تاریخ \_\_\_\_\_

والد یا والدہ/ سرپرست کے دستخط \_\_\_\_\_